

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

هَيَّا بِنَا يَا أَبِي.	لِأَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
يَا بُنَيَّ، هَيَّا بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ.	لِمَاذَا نُصَلِّي جَمَاعَةً يَا أَبِي؟

بُنَيَّ

أَبُ

لِمَاذَا يَا أَبِي؟

Wahai anakku, marilah bersama-sama pergi ke masjid.

Kenapa kita sembahyang berjemaah wahai ayahku?

لِنُؤَدِّي صَلَاةَ الظُّهْرِ جَمَاعَةً.

Marilah bersama-sama wahai ayahku.

Kerana sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan 27 kali pahala.

فَضَائِلُ الصَّلَاةِ

اخْتَرِ الْأَجَابَةَ الصَّحِيحَةَ !

	الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
	تَارِكُ الصَّلَاةِ ثَوَابٌ

	يُضِيعُ النَّفْسَ وَتَوْسَخُ الْوَقْتُ
	تُرَبِّي النَّفْسَ وَتُنَظِّمُ الْوَقْتُ

	الصَّلَاةُ ضَعِيفٌ لِلْأَبْدَانِ
	الصَّلَاةُ رِيَاضَةٌ لِلْأَبْدَانِ